

15 اکتوبر 2018

## 22 اکتوبر کو اپنے وارڈ میں کسی بھی جگہ سے ووٹ ڈالیں

برامپٹن، آن – سٹی آف برامپٹن 22 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کو آسان بنا رہا ہے۔ اس دن، [اہل ووٹرز](#) اپنی رہائش کے وارڈ میں ووٹنگ کے کسی بھی مقام پر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

برائے مہربانی اپنے وارڈ میں ووٹ ڈالنے کے مقامات کی فہرست کے لیے اپنا ووٹر نوٹس ملاحظہ فرمائیں یا سٹی کی ویب سائٹ پر موجود [متعامل نقشہ](#) استعمال کریں: [www.brampton.ca/bramptonvotes](http://www.brampton.ca/bramptonvotes)

پیٹر فے، سٹی کلرک اور 2018 برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر، کا کہنا تھا کہ "برامپٹن میں ووٹ ڈالنے کے 147 مقامات موجود ہیں۔ جب آپ 22 اکتوبر کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشغول ہوں گے - یعنی اپنے مختلف کام نمٹانا، اپنے بچے کو اسکول سے لینا یا کام سے واپس آنا، پڑھنا یا کھیلنا، تو آپ ممکنہ طور پر اپنے وارڈ کے اندر ووٹ ڈالنے کے کسی مقام سے زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ آپ کا ووٹ معنی رکھتا ہے اور برامپٹن کے مستقبل کو شکل دینے میں مدد دیتا ہے، لہذا اپنے ووٹ دینے کے حق کو استعمال کرنا ہر گز نہ بھولیں۔"

### سرخیوں

- ووٹر کی اہلیت: آپ کو برامپٹن میں رہائش پذیر کینیڈا کا شہری ہونا چاہیے اور ووٹ ڈالنے کے دن پر آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ اگر آپ برامپٹن میں نہیں رہتے مگر آپ یا آپ کے/کی شریک حیات کے پاس شہر میں جائیداد کی ملکیت موجود ہے یا کرایہ پر ہیں، تو آپ ووٹ دینے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔
- شناخت: تمام ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی جگہ پر لازمی طور پر [شناخت کی کوئی قابل قبول دستاویز](#) اور آپ کو ڈاک میں موصول ہونے والا ووٹر نوٹس ساتھ لانا چاہیے۔
- اگر آپ ایک اہل ووٹر ہیں مگر آپ کو ڈاک میں ووٹر نوٹس موصول نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز لسٹ پر نہ ہوں۔ آپ ووٹ ڈالنے کے مقام پر [قابل قبول شناختی دستاویز](#) فراہم کر کے اپنے آپ کو فہرست میں شامل کروا سکتے ہیں۔
- قابل قبول شناختی دستاویزات کی مکمل فہرست، کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات اور ووٹرز کے لیے دیگر معلومات، بشمول پراکسی ووٹنگ کا عمل، [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہے۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654